

فروری 21، 22 کو "Ibn Khabar" سائٹ پر شائع ہونے والی خبر کا جواب
جس کا عنوان تھا کہ " حزب التحریر بنگلہ دیش ہندوستان میں خود کش حملوں کی منصوبہ
بندی کر رہی ہے "

جناب محترم،

میں یہ خط آپ کے نیوز چینل اور اخبار "Ibn Khabar" میں نشر کی گئی خبر اور ان دو مضامین کے جواب میں لکھ رہا
ہوں جس میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ حزب التحریر دہشت گرد جماعت ہے اور وہ بھارت میں خود کش حملوں کی منصوبہ
بندی کر رہی ہے -

خبر اور پھر مضمون دونوں میں کئی غلطیاں ہیں اور گمراہ کن بیانات شامل ہیں جس کی ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں

ہم نے 22 جنوری 2016 کو پریس ریلیز جاری کی جس میں جھوٹ اور تہمتوں کو بے نقاب کیا تھا کہ --- ذرائع ابلاغ
میں نشر کیے جانے والے یہ بیانات مجرمانہ اور مریض ذہنوں کے اختراع کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں-

--- "<http://linkis.com/hizb-ut-tahrir.info/ihKXa>"

اسی طرح میں نے ہندوستان میں رائٹرز کو براہ راست ٹویٹ بھیج کر ان کے جھوٹے دعوں کو مسترد کیا-



@OsmanBakhach

کچھ بھارتی میڈیا کے اداروں نے جھوٹ اور من گھڑت الزامات لگائے ہیں کہ حزب التحریر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ
بندی کر رہی ہے۔ یہ کھلا جھوٹ ہے۔ حزب التحریر کبھی تشدد کا راستہ اختیار ہی نہیں کرتی۔

20 جنوری 2016

یا دہانی کے لیے:

حزب التحریر ایک عالمی سیاسی جماعت ہے جس کا ہدف فکری اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے عالم اسلام میں نبوت
کے طرز پر خلافت راشدہ کا قیام ہے۔ حزب کی بنیاد 1953 میں بیت المقدس میں رکھی گئی تھی اور اب یہ مغرب، مشرق
وسطی، افریقہ اور ایشیاء کے چالیس سے زائد ممالک میں سرگرم ہے۔ اشتعال انگیزی، پابندیوں، غیر قانونی گرفتاریوں
اور تشدد کا سامنا کرنے کے باوجود، جس کے نتیجے میں کئی بار اس کے شباب نے شہادت کو گلے لگایا ہے، دنیا میں
اس کی ایک مثال بھی موجود نہیں کہ حزب کبھی بھی اپنے پر امن سیاسی طریقہ کار سے ہٹی ہو -

جہاں تک حزب التحریر اور ہندوستانی حرکت المجاہدین، لشکر طیبہ اور جیش محمد کے درمیان من گھڑت رابطے کی بات
ہے تو ہم اس بات کی مکمل تردید کرتے ہیں کہ حزب التحریر کے ان میں سے کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلقات نہ تو

بھارت میں ہیں اور نہ ہی بھارت کے باہر ہیں - یہ وہ بات ہے جس کی ہم پہلے بھی کئی بار تردید کر چکے ہیں-

ہندوستانی ایجنسیوں کو چاہیے کہ وہ ان آمرانہ حکومتوں کی ایجنسیوں کی نقالی نہ کریں جو وقتاً فوقتاً مسلمانوں اور
اسلامی جماعتوں کے خلاف خطرے کی گھنٹی بجانے کی عادی ہیں جس کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کو مجرم ظاہر
کرنے کی کوشش ہوتی ہے-

"Ibn Khabar" کو چاہیے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے جھوٹی اور خود ساختہ کہانیاں گھڑ کر معاشرے کو ہیجان میں مبتلا نہ کرے۔

ہم امید کرتے ہیں کہ "Ibn7"، "Ibnlive"، "CNN-IBN" اور "Ibn Khabar" کی ایڈیٹوریل ٹیم کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ وہ خبر کو پیشہ ورانہ اور دیانت دارانہ صحافت کے اصولوں کے مطابق پیش کرنے کے پابند ہیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ٹی وی چینلز اور اخبارات درست رپورٹنگ کی اہمیت پر توجہ دیں گے، اور اوپر بیان کیے گئے مذکورہ نکات پر بھرپور توجہ دیں گے تا کہ ہمیں مستقبل میں عدالتی چارہ جوئی کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے اس خط کو شائع بھی کریں۔ شکریہ

عثمان بخاش



ڈائریکٹر مرکزی میڈیا آفس حزب التحریر